

سندھ آرڈیننس نمبر X مجریہ ۱۹۸۳

## **SINDH ORDINANCE NO. X OF 1983**

سندھ آبپاشی (ترمیم) آرڈیننس، 1983

## **THE SINDH IRRIGATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1983**

### **فہرست (CONTENTS)**

تمہید (Preamble)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short Title and commencement

۲۔ سندھ ایکٹ نمبر VII مجریہ ۱۸۷۹ کی دفعہ نمبر 15-A کا اضافہ

Addition of section of 15-A in Sind Act, VII of 1879

۳۔ نکاسی آب ریٹ کی وصولی

Levy of drainage rate

سندھ آرڈیننس نمبر X مجریہ ۱۹۸۳

## SINDH ORDINANCE NO. X OF 1983

سندھ آبپاشی (ترمیم) آرڈیننس، 1983

### THE SINDH IRRIGATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1983

[۲۱ اگست ۱۹۸۳]

آرڈیننس جس سے سندھ آبپاشی ایکٹ، 1879 میں ترمیم کی جائے گی۔

تمہید (Preamble)

آرڈیننس جس کے ذریعے سندھ آبپاشی ایکٹ، 1879، میں ترمیم کرنا مقصود ہے۔ جس کو اس طرح سے عمل میں لایا جائے گا۔

مختصر عنوان اور  
شروعات

Short Title and  
commencement

لہذا اس لئے 5 جولائی 1977 کے اعلان اور عبوری آئین 1981 کے حکم کی تکمیل میں گورنر سندھ بخوشی اس آرڈیننس کو بنا کر نافذ فرماتا ہے۔

1. (1) اس آرڈیننس کو سندھ آبپاشی (ترمیم) آرڈیننس، 1983 کہا جائے گا۔

(2) یہ فوری نافذ العمل ہوگا اس کو اپریل، 1983 کے پہلے دن سے عائد کا سمجھا جائے گا۔

سندھ ایکٹ نمبر VII  
مجریہ ۱۸۷۹ کی دفعہ  
نمبر 15-A کا اضافہ

Addition of  
section of 15-A  
in Sind Act, VII of

2. سندھ آبپاشی ایکٹ، 1879 میں دفعہ 15 کے بعد مندرجہ ذیل نئی دفعہ کا اضافہ کیا جائے گا۔

1879  
نکاسی آب ریٹ کی  
وصولی  
Levy of drainage  
rate

”A-15(1) حکومت ایسی زمین پر ڈرینج ریٹ لاگو کر سکتی ہے، جو سیم اور تھور پر ضابطہ رکھنے اور زمین کو آبادی کے قابل بنانے والے پراجیکٹ کی حدود میں واقع ہے اور جس کو ڈرینج سہولیات ٹیوب ویلز یا نکاسی کے ذریعے مہیا کی گئی ہے۔

حکومت کی جانب سے مہیا کی گئی ان سہولیات کے متعلق نوٹی فکیشن جاری ہونے کے بعد پہلی دو سیزنل فصلوں پر کوئی ریٹ لاگو نہیں کیا جائے گا۔

(2) حکومت اس دفعہ کے تحت طے کئے گئے قواعد کے مطابق ادا شدہ رقم، لینڈ روینیو کے بقایاجات کے طور پر وصول کریگی۔

**نوٹ:** آرڈیننس کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔